

بھائی ہیں۔

(۴) گورے مسلمان کو کامے مسلمان پر یا کامے مسلمان کو گورے مسلمان پر ہرگز کوئی فوکیت حاصل نہیں ہے۔

(۵) اس عبارت کا مناسب ترین عنوان ہے: ”تومی اتفاق“



مشق کے لیے عبارات

عبارت

۱

”سکون کے وقت سمندر کا دیدار آنکھوں کو فرحت بخشنے والی چیز ہے۔ تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو ہر ہوں کا ایک لا تعداد سلسلہ نظر آتا ہے، جو ہوا کے نرم زم جھونکوں کے اثر سے سمندر پر قریب قریب ہو وقت آتے رہنے سے ایک دوسرے کے پیچھے جلتے بناتا چلا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ہیں ایک دوسری کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ صبح کے وقت آفتاب نکلتا ہے اور اچھاتی ہوئی ہر ہوں کی سفید جھاگ پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں تو قوسِ فُرُح کے سارے رنگ دفعۃ شفاف پانی کے تختوں پر چمک جاتے ہیں اور، دور افق کے قریب تو سنہری روپیلی فرش بچھا ہوا نظر آتا ہے۔ گویا شاہِ خاور کے خیر مقدم کے لیے سامان ہو رہا ہے۔“

﴿سوالات﴾

(۱) سکون کے وقت سمندر کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟

(۲) تختہ جہاز سے سمندر کیا نظر آتا ہے؟

(۳) جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو اس وقت سمندر کا منظر کیسا ہوتا ہے؟

(۴) دُور افق کے قریب کیا نظر آتا ہے؟

(۵) شاہِ خاور سے کیا مراد ہے؟



عبارت

۲

”امتحاب کتب ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس کے لیے اس طرح کی احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہے جس طرح کہ دوستوں کے انتخاب کے لیے جس طرح ایک اچھے اور نیک چال چلنے کا مالک انسان اپنے دوست کو برائی سے بچالیتا ہے اور ایک برا دوست اپنی بدکداری کی وجہ سے دوسرے دوست کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح اچھی کتابیں دل و دماغ اور عادات و اطوار پر اثر ڈالتی ہیں اور مخرب اخلاق اور بے ہودہ کتابیں طبیعت کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اسی طرح بُری کتابوں کا مطالعہ پڑھنے والے کی اخلاقی موت کا باعث بنتا ہے۔ مشاہیر زمانہ کی سوانح عمریاں، سفر نامے، تاریخی اور مذہبی کتب اور جدید معلومات پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ انسان اور خصوصاً طالب علم کے لیے بہت مفید ہے۔ اخلاقی کتابوں کے مطالعے سے اخلاق بلند ہوتا ہے۔“

﴿سوالات﴾

- (۱) کتابوں کے انتخاب میں کس چیز کی ضرورت ہے؟
- (۲) بُرا دوست کیا نقصان پہنچاتا ہے؟
- (۳) خراب کتابیں پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟
- (۴) طالب علم کے لیے کون ہی کتابیں مفید ہیں؟
- (۵) اس عبارت کا کوئی مناسب عنوان لکھیے۔



﴿عبارت﴾ ۳

مسلمانوں کے ایک ہزار سالہ دور اقتدار میں ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ رہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا۔ ہندوؤں کی بعض رسماں مسلمانوں میں رائج ہوئیں اور بعض اسلامی تصورات ہندوؤں میں مقبول ہوئے۔ لیکن ہندو اور مسلمان آپس میں جذب ہو کر ایک معاشرہ نہ بن سکے۔ ہندو مسلمان عموماً الگ الگ مخلوقوں میں رہتے تھے۔ ہندو معاشرہ ذات پات کے بندھنوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس لیے ہندو نہ تو آپس میں متحد ہوتے تھے نہ مسلمانوں کی طرف خلوصی دل سے ہاتھ بڑھاتے تھے۔ اگرچہ مسلمان اور ہندو دونوں قومیں ایک خطہ ارض میں رہتی تھیں، لیکن مسلمانوں کی رواداری کے باوجود ہندوؤں کے معاشرتی اور مذہبی تعصبات پختہ ہوتے گئے۔ باہمی میل جوں اور یگانگت کا خاصاً فقدان رہا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کی یہ الگ الگ حیثیت پورے اسلامی دور میں نمایاں رہی۔ اس صورتِ حال کو پاکستان کی مخصوص اصطلاح میں ”دوقوئی نظریہ“ کہا جاتا ہے۔

﴿سوالات﴾

- (۱) ہندوؤں اور مسلمانوں نے ایک ساتھ رہ کر ایک دوسرے سے کیا کچھ سیکھا؟
- (۲) ہندوؤں اور مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کیسے رہے؟
- (۳) ہندو معاشرہ آپس میں متحد کیوں نہ ہوسکا؟
- (۴) مسلمانوں نے ہندوؤں پر کتنے عرصے تک حکومت کی؟
- (۵) دوقوئی نظریہ کیا ہے؟



﴿عبارت﴾ ۴

”دنیا کے ادب میں ڈراما ایک نہایت قدیم صنف ہے۔ اردو میں ڈرامے کی ابتداء ۱۸۵۳ء میں امانت کی ”اندر سجنا“ سے ہوتی ہے۔ لیکن جدید ڈرامے کا تصور بعد میں انگریزوں کی وساطت سے آیا۔ اردو ڈرامے کے پیش رو کی حیثیت سے ”رہس“ کا ذکر ضروری

ہے۔ اس دور میں ڈرامے پر شاعری، رقص و سرود اور موسیقی کا غلبہ تھا۔ انیسویں صدی کے آخر تک یہی سلسلہ رہا۔ بعد میں آغا حشر نے کچھ انگریزی ڈراموں کے ترجموں اور کچھ طبع زاد ڈراموں سے اس میں زندگی کا حقیقی خون دوڑانے کی کوشش کی۔ بیسویں صدی کے پہلے ربیع میں مقتضے مکالموں کا زور رہا۔ بلکہ عبدالحیم شتر نے انگریزی کے تبع میں نظم معاکی صورت میں چند ڈرامائی نمونے بھی پیش کیے۔ دوسرے ربیع کے ڈرامانگاروں کے ہاتھوں ڈرامازندگی اور عوام سے قریب تر ہوتا گیا۔ اس زمانے میں امتیاز علیٰ تاج نے اپنا معروف ڈراما ”نارکی“ لکھا۔ ان کے ہم عصر ڈرامانگاروں میں عبدالعلیٰ عابد اور میرزا دیوب بالخصوص قبل ذکر ہیں۔

﴿سوالات﴾

- (۱) اس عبارت کا عنوان تجویز کیجیے۔
- (۲) اردو ڈرامے کا ذکر کرتے وقت ”رہس“ کا ذکر کیوں ضروری ہے؟
- (۳) وہ کون سا دوڑھا جس میں اردو ڈرامے پر شاعری اور رقص و سرود کا غلبہ تھا؟
- (۴) مقتضے مکالمے سے کیا مراد ہے؟
- (۵) طبع زاد ڈراما کیا ہوتا ہے؟



عبارت ۵

”قائدِ اعظم“ ہمیشہ سے ایمان دار، باہمتوں، نذر اور مستقل مزاج انسان تھے۔ ان کا دامن لاٹھ اور ہوس سے پاک تھا۔ وہ کسی نجی یا ساتھی و کیل سے بھی اپنی شان کے خلاف کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ نامساعد حالات میں گھبرا تے نہیں تھے اور نہ کبھی دغا اور فریب سے کام لیتے تھے۔ ان کی سیاست صاف سترہ اور پاکیزہ تھی۔ وہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے توڑ پھوڑ اور خلاف قانون اقدامات کے تحت مخالف تھے۔ جس بات کو حق سمجھتے، اس کے بارے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی مصلحت کوٹھی سے کام لیتے تھے۔ خوش پوچھی کا انھیں بے حد شوق اور سلیقہ تھا جو آخر تک قائم رہا۔ ہندوستان کے کتنے ہی وائسرائیوں نے ان کی خوش پوچھی کی تعریف کی۔ ان کی زندگی کے آخری چند سالوں میں ان کی شہرت با میزون پر پہنچ گئی تھی۔ پاکستان کا قیام ان کا عظیم کارنامہ ہے۔“

﴿سوالات﴾

- (۱) قائدِ اعظم کس قسم کے انسان تھے؟
- (۲) قائدِ اعظم کا سیاسی دور کس قسم کا تھا؟
- (۳) قائدِ اعظم کا عظیم کارنامہ کون سا ہے؟
- (۴) ہندوستان کے وائسرائیوں نے قائدِ اعظم کے کس وصف کی تعریف کی ہے؟
- (۵) اس عبارت کا عنوان لکھیے۔



”علامہ اقبال کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ ایک باعمل شاعر تھے۔ انہوں نے شعر کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات، حسن اخلاق، خودی، فقر، درویشی اور مغرب سے بیماری کی تلقین کی اور اپنے عمل کے ذریعے اس کا ثبوت مہیا کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد میں اپنی بہت اور طاقت کے مطابق شرکت کی۔ گول میز کا نفرنس میں شرکت کے لیے یورپ کا سفر کیا۔ اسلامی کا نفرنس میں شرکت لیے فلسطین گئے۔ نیز اسلامی افکار اور فلسفہ کی اشاعت کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں (بھلی، حیدر آباد (دکن)، مدراس اور بیکر وغیرہ کے دورے کیے۔ مسلمانوں کے اصرار پر پنجاب اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کے حقوق کے لیے انتخاب میں حصہ لیا اور تین سال تک اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑی۔ حتیٰ کہ اسلام کے نفاذ کے لیے ایک الگ خطہ میں کے حصول کی راہ دکھائی۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی اور تعمیر نو کا ولہ تازہ عطا کیا۔“

﴿سوالات﴾

- (۱) اس عبارت کا کوئی موزوں عنوان تحریر کیجیے۔
- (۲) علامہ اقبال نے شعر کے ذریعے سے ہمیں کیا تلقین کی ہے؟
- (۳) علامہ اقبال نے اسلامی افکار کی اشاعت کے لیے کن علاقوں کا دورہ کیا؟
- (۴) علامہ اقبال نے کتنے عرصے تک پنجاب اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑی؟
- (۵) علامہ اقبال نے کن لوگوں کو آزادی اور تعمیر نو کا ولہ تازہ عطا کیا؟

